

عزیز اہل خاندان،

کنڈرگارٹن اور یارک ریجن ڈسٹرکٹ سکول بورڈ میں خوش آمدید۔

ہماری کنڈرگارٹن کلاسیں پرجوش، خیال رکھنے والی اور خوش آئند جگہیں ہیں جو آپ کے بچے کو سیکھنے، بڑھنے اور ترقی کرنے میں مدد دینے کے لیے بخوبی مرتب کردہ ہیں۔ آپ کا بچہ کھیل اور تلاش کے ذریعے سیکھے گا۔ وہ نئے دوست بنائیں گے۔ وہ ابتدائی خواندگی اور اعداد و شمار کی مہارتوں میں پیش رفت کریں گے کیونکہ وہ ساتھیوں اور اساتذہ کے ساتھ سیکھنے کی پرمسرت جگہوں پر اشتراک عمل کرتے ہیں۔

یہ بات ہے حد اہم ہے کہ آپ کا بچہ ہمارے سکولوں میں خوش آئند اور قابل قدر محسوس کرے۔ ہم اپنے کلاس رومز اور سیکھنے کے تجربات کو طلباء کی متنوع ثقافتوں، شناختوں، خوبیوں اور دلچسپیوں کی عکاسی کرنے کے لیے مرتب و مزین کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس پر فخر محسوس کریں کہ وہ کون ہیں۔

ہمارے ہنر مند اور دیکھ بھال کرنے والے کنڈرگارٹن کے اساتذہ آپ کے بچے کی کنڈرگارٹن میں تبدیلی اپنانے کو ایک مثبت تجربہ بنانے میں تمام تر معاونت فراہم کریں گے۔ ہم آپ کو اور آپ کے بچے کو موسم بہار کی واقفیت کی تقریب میں مدعو کریں گے جہاں آپ کو اپنے سکول میں کنڈرگارٹن کے اساتذہ کرام سے ملنے کا موقع ملے گا، مزید معلوم کریں کہ کیا توقع کی جانی ہیں، اور آپ اپنے بچے کو کنڈرگارٹن میں شروعات کرنے کے لیے تیار ہونے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا سکول اگلے چند مہینوں میں آپ کو مزید معلومات بھیجے گا۔

ہم اس لازمی کردار کو بے حد اہمیت دیتے ہیں جو خاندان سیکھنے میں ادا کرتے ہیں، اور گھر، کمیونٹی اور اسکول کے درمیان مضبوط اور باہمی تعاون پر مبنی تعلقات استوار کرتے ہیں۔ ہم آپ کے بچے کے سیکھنے، کامیابی اور فلاح و بہبود کی معاونت میں اپنے تعلقات کو استوار اور مضبوط کرتے ہوئے ان کو جاننے کے منتظر ہیں۔

ہم آپ کو www.yrdsb.ca ملاحظہ کرنے کے لیے مدعو کرتے ہیں، جہاں آپ بورڈ، اپنے سکول، اور ہمارے کنڈرگارٹن پروگرام کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں، اور طالب علم، خاندان اور کمیونٹی کے وسائل کے بارے میں معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ [YRDSB](http://www.yrdsb.ca) میں ہمارے بورڈ یوٹ کاسٹ ٹیون، بشمول ایک حالیہ قسط کہ جب وہ سکول جانا شروع کرتے ہیں تو کیا توقع رکھیں، تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

ہم کنڈرگارٹن میں آپ کے بچے کو خوش آمدید کہنے کے منتظر رہیں گے!

بل کوبر (Bill Cober)
ڈائریکٹر آف ایجوکیشن